

کاؤنٹی کی عدالت میں
ذیل کے قانونی نمبر _____ کے تحت
فورٹ بینڈ کاؤنٹی، ٹیکساس

§
§
§
§
§

ریاست ٹیکساس

بمقابلہ

مبنی بر حقائق مواخذہ جرم کی درخواست MISDEMEANOR PLEA OF TRUE

جرم، سزا کی حد، سمجھوتے کی درخواست۔ اب مدعا علیہ یہاں درخواست دائر کرنے سے پیشتر عدالت کو مندرجہ ذیل پیش کرتا ہے: میں دماغی طور پر مستعد ہوں اور میں کمیونٹی کی نگرانی کو کالعدم کرنے/اس جرم کا مقدمہ چلانے والی ریاستی تحریک کے محرکات سمجھتا ہوں جس میں سزا کے طور پر ایک جرمانہ جو کہ \$ _____ سے متجاوز نہیں، اور/یا فورٹ بینڈ کاؤنٹی جیل میں قید جو _____، دنوں/مہینوں سے متجاوز نہیں عائد کی جاتی۔

حقوق کا اقرار نامہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا حق حاصل ہے: آزمائشی مدت پر مقدمہ چلانے یا اس کو منسوخ کرنے کے لیے ریاستی تحریک پر سماعت حاصل کر سکوں؛ اپنی جانب سے گواہی دینے کے لیے شہدین کو رضامند کر سکوں؛ اپنے اوپر الزام لگانے والے افراد؛ الزامات کا سامنا اور ان پر جرح کر سکوں اور کھلی کچھری میں اپنے لیے الزامات کو پڑھوا سکوں؛ خاموش رہ سکوں؛ کیونکہ ہر وہ بات میرے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے جو میں کروں؛ اور اپنے وکیل کی تفویض کے بعد **مبنی بر حقائق** درخواست دائر کرنے سے قبل دس (10) دنوں کا وقت لے سکوں۔

درخواست کا محدود حق۔ براہ راست اور ذیلی نتائج میں سمجھتا ہوں کہ **مبنی بر حقائق** درخواست کی صورت میں، عدالت بلا ثبوت سزا کا تعین کر سکتی ہے؛ اور یہ کہ اگر عدالت سزا کے تعین میں اس متفقہ تجویز سے تجاوز نہیں کرتی کہ اپنی سزا یابی پر میرا درخواست درج کروانے کا حق اس وقت تک تحریری طور پر اٹھائے گئے اور حتمی معاملات تک محدود کر دیا جائے گا جب تک کہ عدالت دیگر معاملات اٹھانے کی اجازت نہ دے؛ اگر پچھلے بیان کے مطابق میں "درخواست کے اس محدود حق" کو استعمال کرنے کا انتخاب کرتا ہوں، تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی وکیل میری نمائندگی کرے اور اگر میں مالی طور پر کسی وکیل کا بندوبست کرنے یا درخواست کا ریکارڈ رکھنے سے قاصر ہوں، تو عدالت درخواست کے استغاثے میں میری نمائندگی کے لیے ایک وکیل مقرر کرے گی؛ کہ "درخواست کے اس محدود حق" کے استعمال کے لیے میرے پاس تیس (30) دنوں کی مہلت ہے؛ کہ اگر مجھے قصور وار ٹھہرایا جاتا ہے، تو کسی دوسرے جرم کا مورالزام ہونے پر اس مقدمے کو میری سزا میں اضافے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؛ اور اگر قابل اطلاق ہو، تو میری ڈرائیونگ کا حق منسوخ، معطل، رد کیا؛ یا چھینا جا سکتا ہے۔

نمائندگی۔ میں یہ مقدمہ مکمل طور پر اپنے/اپنی وکیل مختار کے ساتھ زیر بحث لا چکا ہوں، اور اس نے میرے اطمینان کی خاطر ہر سوال کا جواب دیا ہے۔

دستبرداری۔ اپنے حقوق کو مکمل طور پر سمجھ کر، میں دانستہ اور رضاکارانہ طور پر درج بالا حقوق میں سے ہر ایک سے دستبردار ہوتا ہوں، اور میں ریاست کی جانب سے آزمائشی مدت پر مقدمہ چلانے یا اسے منسوخ کرنے کی تحریک کے محرکات کے خلاف **مبنی بر حقائق** درخواست کا خواہشمند ہوں۔

درخواست۔ میں کھلی کچھری میں دانستہ اور رضاکارانہ طور پر ریاستی تحریک کے محرکات کے خلاف **مبنی بر حقائق** درخواست جمع کروانا اور استغاثے کے ساتھ اپنے بیانیہ معاہدے کی بنیاد پر عدالت سے فی الفور یہ مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کرتا ہوں۔ میں مزید سمجھتا ہوں کہ اگر جج سمجھوتے کی درخواست کی پیروی نہیں کرتا، تو مجھے اپنی درخواست واپس لینے کی اجازت ہو گی۔ میں اس مقدمے میں آزمائشی مدت پر مقدمہ چلانے یا اسے منسوخ کرنے کی خاطر ریاست کی دائر کردہ تحریک میں درج شدہ ہر خلاف ورزی کا اعتراف کرتا ہوں اور یہ کہ ریاست کے بیانیے کا ہر عنصر حقیقت پر مبنی ہے۔ میں عدالت کی جانب سے دیے گئے تمام انتباہات اور اپنی درخواست کے نتائج سمجھتا ہوں۔

تاریخ

مدعا علیہ کے دستخط

اس دستاویز کا انگریزی سے _____ میں من و عن ترجمہ کیا گیا۔

منجانب:

مترجم کے دستخط

مترجم کا نام (براہ کرم پرنٹ کریں)

مشیر کا اقرار نامہ۔ میں اس مدعا علیہ سے مشورہ کر چکا ہوں جسے میں حتی المقدور قابلیت کا حامل سمجھتا ہوں اور جس پر میں نے حسب اطلاق، امیگریشن کے نتیجے سمیت یہاں شامل کردہ تمام معاملات مکمل طور پر واضح کر دیے ہیں۔

□ بطور تفویض کردہ مشیر۔ میں توثیق کرتا ہوں کہ میں نے مجرمانہ طریقہ کار کے ضابطے کے آرٹیکل 26.04 (j) کے تحت اپنے فرائض انجام دیے ہیں، اور عدالت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کروائی کے اختتام پر مجھے وکیل برائے ریکارڈ کی حیثیت سے مراجعت کی اجازت دی جائے۔

مشیر کا نام (براہ کرم پرنٹ کریں)

مدعا علیہ مشیر کے دستخط / تاریخ

استغاثہ کی رضامندی اور سماعت کی دستبرداری کی منظوری۔ زیر دستخطی معاون ضلعی وکیل، منجانب ریاست ٹیکساس ریاست کی آزمائشی مدت پر مقدمہ چلانے یا اسے منسوخ کرنے کی تحریک پر مدعا علیہ کے بازنامے کی سماعت کی رضامندی دیتا، اس پر اتفاق کرتا، اور منظوری دیتا ہے۔

معاون ضلعی وکیل، فورٹ بینڈ کاؤنٹی

تاریخ

اس پر میرے روبرو مذکورہ مدعا علیہ کی جانب سے _____، 20 _____ کے _____ دن قسم اٹھائی اور تصدیق کی گئی۔

منجانب:

نائب کلرک، فورٹ بینڈ کاؤنٹی، ٹیکساس

قابلیت کی تحقیق کاری۔ مدعا علیہ کے طرز عمل اور جوابات کی بنیاد پر، عدالت تعین کرتی ہے کہ مدعا علیہ ذہنی طور پر تندرست ہے اور دانستہ، بقائمی ہوش و حواس اور رضاکارانہ طور پر مندرجہ بالا حقوق سے دستبردار ہوتا ہے؛ اور دانستہ، بقائمی ہوش و حواس اور رضاکارانہ طور پر درخواست دائر کر رہا ہے۔

بندوق یا گولہ بارود رکھنے کا حق، شہریت، امیگریشن کے نتائج۔ میں نے مدعا علیہ کو الزامات کی نوعیت، تمام حقوق اور اقرار جرم یا عدم مزاحمت کے نتائج سے آگاہ کیا؛ بشمول اس کے کہ: کہ اگر ٹیکساس کے خاندانی ضابطے، سیکشن 71.004 میں بیان کردہ اصطلاح کے مطابق جرم خاندانی تشدد پر مشتمل ہو تو 18 USC سیکشن 922(g)(9)، یا سیکشن 46.04(b)، ٹیکساس پینل کوڈ کے تحت، وفاقی قانون کی رو سے مدعا علیہ کے لیے بینڈ گن، لانگ گن، یا گولہ بارود سمیت بندوق رکھنا یا خریدنا غیر قانونی ہوگا۔

□ مدعا علیہ نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ وہ ریاستہائے متحدہ کا یا کی شہری ہے۔

□ مدعا علیہ نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ وہ ریاستہائے متحدہ کا یا کی شہری نہیں ہے، اور میں نے مدعا علیہ کو متنبہ کیا ہے کہ اقرار جرم یا عدم مزاحمت کے بیان کا نتیجہ ملک بدری، اس ملک میں داخلے پر پابندی، یا وفاقی قانون کے تحت شہریت دینے سے انکار کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ مدعا علیہ اور مشیر نے جرم/مبنی بر حقائق درخواست کے امیگریشن پر اثرات کی بابت منسلکہ اقرار نامہ کی وصولی، تجزیہ اور عملدرآمد کر لیا ہے۔ ٹیکساس کے مجرمانہ طریقہ کار کے ضابطے کی رو سے، عدالت فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے شہر کے دفتر اور/یا فورٹ بینڈ کاؤنٹی کی کمیونٹی سروس اور اصلاحی محکمے کو یہ حکم صادر کرتی ہے کہ اگر مدعا علیہ کی درخواست ٹیکساس کے مجرمانہ طریقہ کار کے ضابطے سیکشن 2.25 کے تحت ہو تو موزوں وفاقی حکام کو اس سے باخبر کریں۔

درخواست کی قبولیت۔

□ عدالت تعین کرتی ہے کہ صوابدید کی سزا کے بامعنی اطلاق کی اجازت دینے کے لیے ریکارڈ میں کافی معلومات موجود ہیں، اور مدعا علیہ نے قبل از سزا تحقیقاتی رپورٹ مرتب نہ کیے جانے کی استدعا کی ہے اور عدالت درخواست سے متفق ہے۔

□ حقیقی عبارت کی رو سے، عدالت کے، تلاش کردہ مشیر کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ مجرمانہ ضابطہ۔ P. Art 26.04(j)، مشیر کو سیکڈوشی کے عمل کی منظوری دیتا ہے، اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی کلرک کو مشیر کے اس عمل اور عدالتی فیصلے کی عکاسی کرنے والے منظر نامے میں اندراج کا حکم دیتا ہے۔

دستخط کیے جانے کی تاریخ

پریڈنٹنگ جج